THE COLLEGE BOARD

PSAT 10 Test Directions Translated into URDU for Students

Spring 2019 Testing Only

Notes to the Proctor:

This document should be printed and distributed once students are seated.

Students may use this document to read translations of the directions that are read aloud or printed in their test book.

Students may keep this document open and on their desk during the entire testing period.

Students may **not** be given additional time, unless approved by the College Board as a separate accommodation.

Collect this document from each student at the end of testing and securely destroy it.

© 2018 The College Board. College Board and SAT are registered trademarks of the College Board. PSAT is a trademark owned by the College Board. Unauthorized copying or reuse of any part of this document is illegal.

فهرستِ مضامین

1	
کے لیے ہدایات	1 طالب علم
ے دن کے مسودے	2 امتحان کے
ان کا آغاز ہونے سے پہلے	2.1 امتحا
جوابی پرچے کی تقسیم	2.1.1
امتحانی کتاب کی تقسیم	2.1.2
امتحانی کتاب کی معلومات اور تصدیقی اعلامیے کی تکمیل	2.1.3
مخصوص امتحانی طریقہ کار کے بارے میں ہدایات	2.1.4
سرورق کی ہدایات	2.1.5
عقبی ورق کی ہدایات	2.1.6
.ه 1: معياري وقت	2.2 مسود
سيكشن 1: مطالعاتي امتحان	2.2.1
سیکشن 2: تحریری و لسانی امتحان	2.2.2
سیکشن 3: ریاضی کا امتحان - کیلکیولیٹر کے استعمال کے بغیر	2.2.3
سيكشن 4: رياضى كا امتحان - كيلكيوليتر	2.2.4
ے بعد	3 امتحان کے
ستگى21	3.1 برخا
امتحانی کتاب اور دیگر امتحانی مواد جمع کرنا	3.1.1
تكميلي عمل	
جوابی پرچے جمع کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔	3.1.3

طالب علم کے لیے ہدایات

1

- ذیل میں اُن ہدایات کا ترجمہ دیا گیا ہے جنہیں پراکٹر باآواز بلند پڑھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹیسٹ بک میں بھی تحریری ہدایات موجود ہیں۔ جیسے آپ کا پراکٹر بلند آواز میں انگریزی ہدایات کو پڑھتا ہے اس کی پیروی کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ ہدایات، پراکٹر کی جانب سے پڑھی گئی ہدایات سے لفظ بہ لفظ مماثل ہوں؛ تاہم بنیادی معلومات مماثل ہیں۔ پراکٹر کی جانب سے جو کچھ پڑھا جا رہا ہو، اگر آپ کے ذہن میں اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو براہ کرم اپنا ہاتھ بلند کریں۔
 - آپ کا پراکٹر کچھ ہدایات کو نظر انداز کر سکتا ہے جو آپ کی امتحانی صورتحال پر لاگو نہیں ہوتیں۔
 - آپ امتحان کے مکمل دور انیے میں اس دستاویز کو اپنی میز پر رکھ سکتے ہیں، تاہم امتحانی عمل کے بعد اسے اپنے پراکٹر کو لازماً واپس کر دیں۔
 - آپ اس دستاویز کو رف کام لکھنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔
- مختلف دور انیوں میں، آپ کا پر اکثر سیکشن میں باقی ماندہ وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت کے مطابق وقفوں کا اعلان کرے گا۔ اگر آپ منظور شدہ سہولت کے تحت، امتحانی عمل سے گزر رہے ہیں تو یہ اعلانات، مترجم دستاویز میں درج دور انیے اور وقفوں سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ براہ کرم اپنے پر اکثر کی جانب سے پڑھے جانے والے اعلانات کو دھیان سے سنیں۔
 - اگر آپ منظور شدہ سہولیات کے تحت، امتحانی عمل سے گزر رہے ہیں تو آپ کا پراکٹر آپ کو انگریزی میں اضافی ہدایات دے سکتا ہے۔
- آپ کی توجہ مخصوص معلومات کی جانب مبذول کرانے کے لیے، اس پوری دستاویز میں تصویری علامات (آئی کونز)
 استعمال کی گئی ہیں:

آپ اېم معلومات

- آپ کے پراکٹر کی جانب سے دی جانے والی زبانی ہدایات
 - آپ کی امتحانی کتاب میں درج ہدایات

2 امتحان کے دن کے مسودے 2.1 امتحان کا آغاز ہونے سے پہلے

آپ کا پراکٹر، آغاز کرنے کے لیے کہے گا:

● PSAT 10 انتظامیہ میں خوش آمدید۔ اس امتحان میں اُن باتوں کو خاص طور پر ملحوظ رکھا جائے گا جنہیں آپ اپنے ہائی اسکول کے زمانے میں سیکھتے رہے ہیں۔ یہ آپ کو SAT کے لیے مشق، اپنی کارکردگی کے جائزے، اور اسکالرشپ پروگرامز کے لیے خود کو اہل ثابت کرنے کا بھی موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ ترجمہ کردہ مطبوعہ ہدایات استعمال کر رہے ہیں، تو میری جانب سے دی جانے والی ہدایات کی پیروی کرنے کے لئے ابھی کتابچہ کھول لیں۔

اس سے پہلے کہ ہم امتحان کا آغاز کریں، میں آپ کے سامنے کچھ قواعد و ضوابط اور ہدایات پڑھوں گا/گی۔ براہِ کرم دھیان سے سنیں، اور کوئی سوال ہو تو اس وقت تک سنبھال کر رکھیں جب تک میں نہ پوچھوں۔

آج کے امتحان میں، آپ اپنے جوابی پرچے پر نشان لگانے کے لیے صرف نمبر 2 پنسل استعمال کر سکتے ہیں۔ میکانکی پنسلوں کا استعمال ممنوع ہے۔ اگر آپ کے پاس نمبر 2 پنسل نہ ہو تو براہِ کرم اپنا ہاتھ بلند کرینتاکہ میں آپ کو مہیا کر سکوں۔

اس کے بعد آپ کا پراکٹر کہے گا:

- اس امتحان میں تمام طلباء کو اپنی صلاحیتوں اور علم کے اظہار کے لیے مساوی مواقع حاصل ہونے چاہئیں۔ اس مقصد کے لیے، کچھ قوانین وضع کیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی فرد ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔ درج ذیل کسی بھی فعل میں ملوث ہونے کی صورت میں ہم متعلقہ طالب علم کے اسکورز کو موقوف اور منسوخ کر دیں گے:
 - امتحان کے دوران کسی بھی قسم کی مدد فراہم کرنا یا حاصل کرنا
 - امتحان کے آغاز سے قبل، امتحانی کتاب دیکھنا
 - امتحانی کتاب یا جوابی پرچے کے غلط سیکشن پر کام کرنا یا گزشتہ یا اگلے سیکشن کو دیکھنا
 - مقررہ وقت ختم ہونے کے بعد جوابی نشانات لگانا
 - امتحان کے دوران یا بعد میں، کسی اور کو سوالات یا جوابات بتانا
 - امتحانی کمرے میں موجود امتحانی مواد کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرنا
 - امتحان دیتے ہوئے یا وقفوں کے دوران، امتحانی عمل میں مدد دینے والی اشیاء بشمول فونز رکھنا یا استعمال کرنا

آپ کو ان امور کے باعث بھی امتحان سے خارج کردیا جائے گا:

- امتحان دیتے ہوئے کھانا یا پینا (سوائے اس کے کہ بطور منظور شدہ سہولت اس کی اجازت حاصل کی گئی ہو، کھانے اور پینے کی صرف وقفوں کے دوران اجازت ہے)
 - کسی بھی قسم کی خلل اندازی کا باعث بننا یا دیگر طلباء کی توجہ منتشر کرنا
 - امتحان یا وقفوں کے دوران ، کسی اجازت یا منظوری کے بغیر کمرے سے باہر جانا

اب تک میں نے جو کچھ کہا ہے، اس کے بارے میں کسی کا کوئی سوال تو نہیں؟

- (A) اگر آپ کے اسکول نے طلباء کی ذاتی اشیاء جمع کرلی ہیں، تو آپ کا پراکٹر کہے گا:
- اب تک یقیناً آپ نے اپنے تمام فونز یا کوئی بھی دیگر برقی آلات حوالے کردیے ہوں گے۔ اگر ابھی بھی کسی کے پاس کسی قسم کا برقی آلہ موجود ہے تو براہ کرم الارمز ختم کرکے فون بند کریں اور اسے میرے حوالے کر دیں۔ امتحان کے اختتام پر یہ آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔
 - (B) اگر آپ کے اسکول نے طلباء کی ذاتی اشیاء وصول نہیں کی ہیں، تو آپ کا پر اکثر کہے گا:
- اگر اس وقت آپ کے پاس فون یا کوئی اور برقی آلہ موجود ہے، تو الارمز کو غیر فعال کرکے فون کو مکمل طور پر بند کر دیں اور اسے اپنے بیگ یا بیگ پیک میں ڈال دیں جو امتحان ختم ہونے تک کمرے میں ایک طرف رہے گا۔ اگر آپ کو اپنا فون محفوظ کرنے کے لیے پلاسٹک بیگ درکار ہے، تو اپنا ہاتھ کھڑا کریں اور میں آپ کو ایک دوں گا۔ کوئی بھی ایسا برقی آلہ جسے بند کیے بغیر رکھا گیا ہو، اسے تحویل میں لیا اور تفتیش کا حصہ ہونے کے تحت اس میں موجود مواد کا معائنہ کیا جائے گا۔ اگر آپ کا فون شور کرتا ہے جس دوران یہ آپ کے پاس موجود ہو، تو آپ کو امتحان سے برخاست کر دیا جائے گا۔

اگر آپ وقفوں کے دوران کھانے پینے کے لیے اسنیکس یا مشروبات ساتھ لائے ہوں تو انہیں باہر نکال کر اب اپنی میز کے نیچے رکھ دیں۔ وقفوں کے دوران آپ کو اپنے بستے کھولنے کی اجازت نہیں ہو گی۔

تمام بیگز کو بند کریں، اور انہیں کمرے میں ایک طرف دیوار کے ساتھ رکھ دیں جب تک امتحان ختم ہو جائے۔

آپ کا پراکٹر تصدیق کرے گا یہ کہتے ہوئے کہ فونز کی اجازت نہیں ہے:

- ہے۔ اگر مجھے اس جگہ سے کوئی طالب علم فون کے ساتھ ملے، میں اس طالب علم کو امتحان سے برخاست کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ کا پراکٹر کہے گا:
 - اب ہم امتحان کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔

براہِ کرم اپنی ربر والی نمبر 2 پنسلوں، منظور شدہ کیلکیولیٹر اور امتحان کے دوران استعمال کیے جانے والے کسی بھی دیگر منظور شدہ آلے کے علاوہ اپنی ڈیسک سے تمام اشیاء ہٹا دیں۔

اگر آپ اضافی کیلکیولیٹر یا بیٹریز بھی ساتھ لائے ہیں تو براہِ کرم انہیں اپنی میز پر رکھ دیں۔ آپ امتحان یا وقفوں کے دوران کسی دوسرے طالب علم سے کیلکیولیٹر کا تبادلہ نہیں کر سکتے۔

جب تمام تیار ہو جائیں، تو آپ کا پراکٹر کہے گا:

براہِ کرم خاموشی کے ساتھ اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں تاکہ اس دوران میں معائنہ کر کے یقینی بنا لوں کہ ہر طالب علم کے پاس منظورشدہ کیلکیولیٹر ہی ہے۔

2.1.1 جوابی پرچے کی تقسیم

جب طلباء امتحان کے لیے تیار ہو جائیں، تو آپ کا پراکٹر کہے گا:

اب میں آپ میں سے ہر ایک کو جوابی پرچہ دینے جا رہا/رہی ہوں۔

بڑے خانوں والے جوابی پرچے استعمال کرنے والے طلبہ کو آپ کا پراکٹر کہے گا:

اگر آپ بڑے خانوں کا حامل جوابی پرچہ استعمال کر رہے ہیں، تو براہ مہربانی اپنے جوابی پرچے کے صفحہ آپر دی گئی ہدایات پڑھ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اپنے جوابات کے نشانات کہاں اور کیسے لگانے ہیں۔ آپ دائروں کے بجائے مربع خانوں کو نشان لگائیں گے اور صفحہ کے نمبر میرے اعلان کردہ نمبروں سے مختلف ہوں گے۔ کسی بھی وقت مدد درکار ہو تو ہاتھ بلند کریں۔

آپ کے پراکٹر کی جانب سے تمام طلباء کو کہا جائے گا:

براہِ کرم جائزہ لے کر یقینی بنائیں کہ جوابی پرچے پر آپ کا درست قانونی نام اور تاریخ پیدائش ظاہر ہو رہے ہیں
 اور یہ کہ متعلقہ دائرے درست انداز سے پُر کیے گئے ہیں۔ اپنا ہاتھ کھڑا کریں اگر آپ کے پاس غلط جوابی پرچہ ہے
 یا اگر آپ کو لیبل پر کوئی غلطیاں نظر آتی ہیں۔

آپ کے پراکٹر کی جانب سے تمام طلباء کو کہا جائے گا:

اگر آپ کے جوابی پرچے پر آپ کا صحیح نام موجود ہے اور دیگر معلومات پُر ہیں، بشمول لیبل پر تو براہ مہربانی کچھ وقت کے لیے خاموشی سے بیٹھیں جب تک میں دیگر طالب علموں کو ان کے جوابی پرچے پر درکار معلومات پُر کرنے کے لیے ہدایات دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے قانونی نام کا آخری حصہ، پہلا حصہ اور درمیانی مخفف نام، اگر کوئی ہو، خانہ 1 میں درج کریں۔ اگر آپ کے نام میں حروف کے درمیان وقفے، نشاناتِ الحاق (ہائی فنز)، یا علاماتِ تملیک (اپوسٹروفیز) آتی ہوں تو انہیں بھی شامل کریں۔ اگر آپ اپنے نام کے قانونی آخری حصے کے علاوہ کوئی اور نام لکھیں گے تو آپ کو اسکورز ملتوی ہو سکتے ہیں۔ خانوں میں تمام حروف کو بڑے حروفِ تہجی میں لکھیں اور پھر متعلقہ دائرے کو پر کریں۔ یقینی بنائیں کہ ہر نشان گہرا ہو اور مکمل دائرے میں بھرا گیا ہو۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اوپر دیکھیں۔ کیا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟

خانہ 2-4 کے لیے، آپ کا پراکٹر کہے گا:

خانہ 2 میں، دائرے کو پُر کریں جو آپ پر لاگو ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے گھر پر اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کی، خانہ 3 میں نام اور اسکول جہاں آپ گئے ہیں اس کا پتہ درج کریں۔ پھر، اگر أُ باقاعدہ طور پر اسکول جاتے ہیں، تو خانہ 4 میں ہمارا اسکول کوڈ درج کریں، جو میں نے کمرے کے سامنے پوسٹ کیا ہے۔ اگر آپ اس اسکول میں نہیں گئے، اپنا ہاتھ بلند کریں، اور میں آکر آپ کو صحیح کوڈ دوں گا تاکہ اسے خانہ 4 میں درج کریں۔

(A) اگر آپ کا اسکول طالبعلم کا ID نمبر استعمال کرتا ہے تو خانہ 5 کے لیے، آپ کا پراکٹر کہے گا:

خانہ 5 میں، بائیں جانب پہلے کالم سے شروع کرتے ہوئے اپنا طالبعلم کا شناختی نمبر درج کریں۔ اگر آپ کے آئی ڈی نمبر میں حروف بھی موجود ہوں تو انہیں شامل نہ کریں اور صرف ہندسے درج کریں جن کے درمیان خالی جگہیں نہ ہوں۔ اگر آپ کو اپنا طالب علم کا آئی ڈی نمبر معلوم نہ ہو، تو اپنا ہاتھ بلند کریں۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اوپر دیکھیں۔

(B) اگر آپ کا اسکول طالبعلم کا ID نمبر استعمال نہیں کرتا تو خانہ 5 کے لیے، آپ کا پراکٹر کہے گا:

میں کوئی نشان نہ لگائیں۔

خانہ 6 کے لیے، آپ کا پراکٹر کہے گا:

ها خانه 6 میں اپنا موجودہ گریڈ لیول درج کریں۔

خانہ 7 کے لیے، آپ کا پراکٹر کہے گا:

میں مناسب دائرہ پر کریں۔

خانہ 8 کے لیے، آپ کا پراکٹر کہے گا:

خانہ 8 میں، اپنی پیدائش کے مہینے کے لیے مناسب دائرہ پر کریں۔ پھر اپنی پیدائش کا دن اور سال کے آخری 2 ہندسے درج کریں اور مناسب دائرے پُر کریں۔ 2 ہندسی عدد کے اندراجی خانوں کی صورت میں، اگر عدد 10 سے چھوٹا ہو تو پہلے خانے میں صفر لکھیں۔ اگر آپ بڑے خانوں والا جوابی پرچہ استعمال کر رہے ہیں تو اپنی پیدائش کا مہینہ، دن اور سال درج کریں۔

2.1.2 امتحانی کتاب کی تقسیم

جب سب تیار ہوں گے تو آپ کا پراکٹر کہے گا:

اب میں آپ کو، آپ کی امتحانی کتب دینے جا رہا/رہی ہوں۔ جب آپ کو اپنی امتحانی کتاب مل جائے تو اسے کھولیں نہیں۔ اسے الثانیں اور عقبی ورق پر درج ہدایات کو پڑھیں۔ اس میں امتحان کے بارے میں اور اپنے جوابات کو درست طریقے پر نشان زد کرنے کے حوالے سے اہم معلومات درج ہیں۔

جب سب تیار ہوں گے تو آپ کا پراکٹر کہے گا:

اپنی امتحانی کتاب کی عقبی جانب اپنا نام، اسکول کا نمبر اور نام اور اس کمرے کا نمبر (یا نام) واضح طور پر درج
 کریں۔ اگر آپ فلیش ڈرائیو پر MP3 یا ATC استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو یہ معلومات آپ کے فلیش ڈرائیو پیکجنگ پر بھی پرنٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جب آپ اپنا کام مکمل کرلیں تو براہِ کرم اوپر دیکھیں۔

اگر آپ بڑے خانوں پر مشتمل جوابی پرچہ استعمال کر رہے ہیں تو اب اپنے جوابی پرچے کی عقبی جانب یا صفحہ نمبر 7 پر آجائیں۔

2.1.3 امتحانی کتاب کی معلومات اور تصدیقی اعلامیر کی تکمیل

خانہ A اور B کے لیے، آپ کا پراکٹر کہر گا:

آپنے جوابی پرچے کی پشت پر (یا بڑے خانوں والے جوابی پرچے کے صفحہ 7 پر) خانہ A اور B ڈھونڈیں۔ اپنے جوابی پرچے پر خانہ A اور B میں فارم کا کوڈ اور امتحان کی ID بالکل ویسے ہی نقل کریں جیسی آپ کی امتحانی کتاب کی پشت پر (یا MP3 یا ATC کے امتحان دینے والوں کے لیے فلیش ڈرائیو پیکجنگ میں) ظاہر ہوتی ہے۔ خانہ A کے لیے، براہ کرم موزوں دائروں کو بھی پُر کریں۔ جب آپ اپنا کام مکمل کرلیں تو براہ کرم اوپر دیکھیں۔

فروری یا مارچ کے امتحانی عمل کے لیے، خانہ C کے لیے، آپ کا پراکٹر کہے گا:

اپنے جوابی پرچے پر خانہ C میں امتحانی کتاب کا سیریل نمبر بالکل ویسے ہی نقل کریں جیسا آپ کی امتحانی کتاب کے سرورق پر (یا MP3 یا ATC کے امتحان دینے والوں کے لیے فلیش ڈرائیو پیکجنگ میں) ظاہر ہوتا ہے۔ براہ کرم مناسب دائرے بھی پر کریں۔ جب آپ اپنا کام مکمل کرلیں تو براہ کرم اوپر دیکھیں۔

اپریل کے امتحانی عمل کے لیے، خانہ 🕻 کے لیے، آپ کا پراکٹر کہے گا:

میں کوئی نشان نہ لگائیں۔

آپ کے پراکٹر کی جانب سے تمام طلباء کو کہا جائے گا:

- جائزہ لے کر یقینی بنائیں کہ فارم کوڈ، امتحانی آئی ڈی اور (فروری اور مارچ کے امتحان کرنے والوں کو) امتحانی کتاب کے سیریل نمبر کے خانوں کو درست طور پر مکمل کیا گیا ہے۔ یہ بات انتہائی اہم ہے کہ آپ اپنے جوابی پرچے پر درست کوڈز درج کریں۔ بصورتِ دیگر، آپ کو اسکورز نہیں دیے جائیں گے۔
 - (A) اگر آپ کا اسکول امتحانی کمرے کے کوٹنز کا استعمال کرتا ہے، تو خانہ D کے لیے آپ کا پراکٹر کہے گا:
 - 🕢 خانہ D میں، امتحانی کمرے کا وہ کوڈ لکھیں جو میں نے پیش کیا تھا، پھر دائروں کو پُر کریں۔
 - (B) اگر آپ کا اسکول، امتحانی کمرے کے کوٹز استعمال نہیں کرتا، تو خانہ D کے لیے آپ کا پراکٹر کہے گا:
 - 🕠 براه کرم خانہ D کو خالی چھوڑ دیں۔

- (A) اگر آپ کا اسکول اختیاری کوڈز کا استعمال کرتا ہے، تو خانہ E کے لیے آپ کا پراکٹر کہے گا:
- خانہ E کے لیے، میں طلباء کے نام بلند آواز میں پکاروں گا جنہیں ہر کوڈ نفویض کیا گیا ہے۔ جب آپ اپنا نام سنیں،
 کوڈ درج کریں جو میں نے آپ کے گروپ کے لیے اعلان کیا ہے۔ اپنا ہاتھ بلند کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو تفویض کردہ کوڈ دہرا کر بتاوں۔ اگر آپ اس اسکول میں نہیں گئے، آپ کو خانہ E خالی چھوڑ دینا چاہیے۔
 - (B) اگر آپ کا اسکول، اختیاری کوڈز استعمال نہیں کرتا، تو خانہ E کے لیے آپ کا پراکٹر کہے گا:
 - ره کرم خانہ E کو خالی چهوڑ دیں۔

آپ کے پراکٹر کی جانب سے تمام طلباء کو کہا جائے گا:

ابراہ کرم اب اپنے جوابی پرچے کے عقب پر تصدیقی اعلامیہ ڈھونڈیں۔

اعلامیےپر دستخط کرنے کا مطلب، آپ کی جانب سے اس بات پر رضامندی ہے کہ آپ کوئی بھی امتحانی مواد، کسی بھی ذریعۂ ابلاغ بشمول ای میل، تحریری پیغامات، انٹرنیٹ پوسٹس، یا انٹرنیٹ کے دیگر استعمال بشمول سوشل میڈیا ایپلی کیشن کے تحت کسی بھی شخص کو نہیں بتائیں گے۔ ایسے کسی بھی عمل کا نتیجہ اسکور کی منسوخی یا دیگر ممکنہ پابندیوں کی صورت میں برآمد ہو سکتا ہے۔ مزید برآن، آپ اس بات پر بھی رضامند ہیں کہ اگر آپ کے اسکول کی جانب سے College Board کو آپ کے بارے میں کوئی معلومات مہیا کی گئی ہیں، تو College Board اس امتحان سے متعلقہ خدمات جیسے کہ اسکور سے مطلع کرنے، اور وظیفے کے حصول کی اہلیت اور مواقع کی فراہمی کے لیے، ان معلومات کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔

اپنے جوابی پرچے میں اعلامیہ اور معلومات کا جائزہ لیں، اس کے بعد اپنے مکمل نام کے دستخط کریں جو کہ آپ کسی بھی باضابطہ دفتری دستاویز پر کرتے ہیں۔ اپنے دستخط کے نیچے، اپنا نام اور آج کی تاریخ درج کریں۔

براہِ کرم یقینی بنائیں کہ یہ سیکشن مکمل ہو چکا ہے۔ اگر آپ اپنے نام کے دستخط نہیں کریں گے تو آپ کے اسکور ز ملتوی یا منسوخ ہو سکتے ہیں۔

جب آپ اپنا کام مکمل کرلیں تو اپنی پنسل نیچر رکھ دیں۔

جب ہر کوئی تصدیقی اعلامیے پر دستخط کر لے گا تو آپ کا پراکٹر کہے گا:

راہِ کرم اب اپنے کیلکیولیٹرز اور اضافی بیٹریاں اپنی میز کے نیچے رکھ دیں۔ اس سیکشن کے لیے آپ کو ان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

امتحان کے دور ان، اپنے جوابی پر چے اور امتحانی کتاب کو اپنی میز کی سطح پر افقی حالت میں رکھیں۔ اگر آپ کو اپنے جوابی پر چے یا امتحانی کتاب میں کوئی چیز غیر درست نظر آئے جیسے کہ کوئی صفحہ غائب ہو، تو اُسی وقت اپنا ہاتھ بلند کریں۔ میں امتحان کے دور ان آپ کی کار کر دگی کے معائنے کے لیے کمرے میں گشت کرتا رہوں گا/گی۔ میری جانب سے آپ کو امتحان کے لیے ایک باضابطہ وقت بھی دیا جائے گا، اور وقفے وقفے سے آپ کو اس بات سے آگاہ کیا جاتا رہے گا کہ ہر سیکشن میں کتنا وقت باقی رہ گیا ہے۔

آپ رف کام لکھنے کے لیے امتحانی کتاب کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جوابات کے نشان اپنے جوابی پرچے پر ہی لگانا ہوں گے، سوائے اس کے کہ آپ کو امتحانی کتاب میں یہ نشانات لگانے کی اجازت حاصل ہو۔ مقررہ وقت ختم ہونے کے بعد، آپ کو اپنی امتحانی کتاب سے جوابی پرچے میں جوابات منتقل کرنے یا خالی دائروں کو پُر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

اگر امتحان کے طریق کار کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، تو براہِ کرم ابھی پوچھ لیں۔ مقررہ وقت کے حامل امتحانی سیکشنز کے دوران، آپ کے سوالات کے جواب نہیں دیے جا سکیں گے۔

2.1.4 مخصوص امتحانی طریقہ کار کے بارے میں ہدایات

اگر کوئی طالب علم نقل نویس کی مدد سے امتحان دے رہا ہو تو آپ کے پراکٹر کی جانب سے نقل نویس کو کہا جائے گا:

- رين براهِ كرم ان بدايات بر عمل كرين.
- آپ کو لازماً صرف وہی املا لکھنا ہو گا جو طالب علم آپ کو لکھوائے گا۔
- آپ کو کسی ایسے طریقے سے طالب علم کو لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کا املا
 تبدیل ہو جائے۔

نقل نویس استعمال کرنے طالب علم کو آپ کا پراکٹر کہے گا:

جیسا کہ آپ scribe استعمال کر رہے ہیں، آپ کی جانب سے املا کروائے جانے والے تمام جوابات اور تصحیحات کو ہوبہو ریکارڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ اپنے کام پر نظر ثانی کرنا چاہیں تو آپ کے جوابات آپ کو پڑھ کر سنا دیے جائیں گے۔ کیا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟

قاری کو آپ کا پراکٹر کہے گا:

اگر آپ طالب علم کے لیے مسودہ پڑھ رہے ہوں، تو براہِ کرم جتنی مرتبہ بھی آپ سے کہا جائے، سوالات پڑھ کر سنائیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو کچھ مسودے میں درج ہو، صرف وہی پڑھ کر سنایا جائے۔ جو کچھ مسودے میں درج ہو، اس کے علاوہ کوئی وضاحت فراہم نہ کریں، خواہ طالب علم اس کی درخواست ہی کیوں نہ کرے۔ اگر طالب علم اس کے علاوہ کوئی وضاحت فراہم نہ کریں، خواہ طالب علم اس کی درخواست ہی کیوں نہ کرے۔ اگر طالب علم اللہ علم Braille Figure Supplement (ابھرے ہوئے (بریل) ہندسوں) کو استعمال کررہا ہو جو ان ابھرے ہووں کو نہیں پڑھتا، اگر ضرورت ہو تو آپ کو لیبلز اور اعداد، عام مستعمل کتاب میں متعلقہ مقامات پر مل جائیں گے۔ کیا ان تمام طریق کار کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟

بریل فارمیٹ استعمال کرنے والے طلبہ کو آپ کا پراکٹر کہے گا:

ہریل کا امتحان، مختلف کتابوں میں منقسم ہے۔ آپ کو ایک وقت میں ایک ہی کتاب دی جائے گی۔ مطالعاتی، اور تحریری و لسانی امتحان عام مستعمل درجہ 2 کی بریل میں ہیں۔ پورے امتحان میں ہر سوال کو دوسرے سوال سے، ایک سطر کی مدد سے الگ رکھا گیا ہے۔ ہر سوال، صفحے کے خانہ 1 سے شروع ہو گا، جبکہ اضافی مواد کا آغاز خانہ 5 سے ہو گا۔ انتخاب کے لیے دیا گیا ہر جواب، خانہ 3 سے شروع ہو گا، جبکہ اضافی مواد کا آغاز خانہ 5 سے ہو گا۔

استعمال کی گئی بریل کی قسم Unified English Braille (UEB) بریل ہے اور ریاضی کا امتحان 1972 کے نظر ثانی شدہ Nemeth Code (نیمتھ کوڈ) میں ہے۔ Nemeth Code (بریل کی حوالہ جاتی معلومات) میں بریل ریاضی کے فارمولے اور ریاضی کے امتحان کے دونوں سیکشنز کے ساتھ استعمال کے لیے ہدایات شامل ہیں۔

اگر آپ اپنے جوابات ریکارڈ کرنے کے لیے کسی بریل آلے کا استعمال کر رہے ہیں تو استعمال کردہ ہر صفحے پر، اپنا مکمل نام اور اُس سیکشن کا نمبر درج کریں جس پر آپ کام کر رہے ہوں۔ سوال نمبر اور اپنا جواب درج کریں۔ انتخاب کے لیے دیے گئے جوابات کو بڑے حروف میں لکھنا ضروری نہیں ہے۔

کیا ان تمام طریقِ کار کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟

ATC فار میٹ استعمال کر نے والے طلباء کو آپ کا پر اکثر کہے گا:

آج آپ کے امتحان کی نوعیت ایسی ہے جسے آپ اپنے اسکرین ریڈر یا دیگر سافٹ ویئر پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
میں نے اس مددگار ٹیکنالوجی - موزوں (یا "ATC") فارمیٹ کو آپ کی میز پر موجود کمپیوٹر میں لوڈ کر دیا ہے۔
براہ کرم اب ATC) Beginning Directions and Information for Users of ATC کے استعمال کنندگان
کے لیے ابتدائی ہدایات اور معلومات) کے نام سے موسوم برقی دستاویز کھول اور پڑھ کر امتحان کے لیے خود کو
تیار کر لیں۔ جب آپ دستاویز کو پڑھ لیں تو براہ کرم اسکرین کو گھٹانے والا بٹن منتخب کریں اور اوپر دیکھیں۔

امتحان کے دوران، آپ اسکرین پر وہی ہدایات پڑھیں گے جو دوسرے طلباء امتحانی کتب میں پڑھیں گے۔ وقت اور دیگر طریق کار کے بارے میں، میری جانب سے پڑھی جانے والی تمام ہدایات آپ پر لاگو ہوں گی۔ جب میں آپ سے عیار حریق حر کے جرکے دیں امتحان کے آغاز کا کہوں، تو درست سیکشن فائل کھولیں اور اپنے پاسورڈ درج کریں جو کہ آپ کے امتحانی لفافے پر طباعت شدہ ہے۔ پھر ہر امتحان کے سیکشن کے لیے اپنی پیکجنگ کو اپنے ڈیسک کے نیچے امتحان کے سیکشن کے لیے اپنی پیکجنگ کو اپنے ڈیسک کے نیچے رکھیں۔ جب میں مقررہ وقت ختم ہونئے کا اعلان کروں تو امتحانی عمل کو روک دیں اور فائل بند کر دیں۔ کیا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟

ہر امتحان کے سیکشن کی شروعات کے وقت، ATC فار میٹ استعمال کرنے والے طلباء کو، آپ کا پراکٹر کہے گا:

🐽 سیکشن ___ کے لیے فائل کھولیں اور اپنا پاس ورڈ ٹائپر کریں۔ آپ کا پاس ورڈ آپ کے امتحانی پیکجنگ کے کھلے ے ہے۔ یہ بہت ہے۔ اور یہ پہ لے رہ ۔ ۔ پر سریں۔ ،پ یہ پس ورد اپ جے امتحابی پیکجنگ کے کہا پلے کے نیچے ظاہر ہو گا۔ جب آپ اپنا پاس ورڈ ٹائپ کر چکیں، اپنی امتحانی پیکجنگ کو اپنے ڈیسک کے نیچے رکھیں۔

ہر امتحان کے سیکشن کے اختتام کے وقت، ATC فار میٹ استعمال کرنے والے طلباء کو، آپ کا پراکٹر کہر گا:

🐽 امتحان کا عمل روک دیں اور سیکشن فائل بند کر دیں۔ کسی اور سیکشن کے لیے فائل کو نہ کھولیں۔

2.1.5 سرورق کی بدایات



ذیل میں آپ کی امتحانی کتاب کے سرورق کا ترجمہ دیا گیا ہے۔

اہم یاد دہانیاں

اس امتحان کے لیے نمبر 2 پنسل درکار ہے۔ میکانکی ینسل یا قلم کا استعمال نہ کریں۔

2

اينر سوالات كا تبادله؛ امتحاني تحفظ اور منصفانه باليسيون کی خلاف ورزی ہے، اور اس کا نتیجہ آپ کے اسکورز کی منسوخی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔

امتحانی کتاب کو کسی صورت میں کمرے سے باہر نہیں لے جایا جا سکتا ہے۔ اس امتحانی کتاب کے کسی بھی جزو کی بلا اجازت دوباره تخلیق یا استعمال ممنوع ہے۔

© The College Board. College Board 2018 اور شاہِ بلوط کے پہل کا لوگو، کالج بورڈ کے رجسٹرڈ شدہ ٹریڈ مارکس ہیں۔ College Board ،PSAT کے ٹریڈ مارک ہے۔

2.1.6 عقبی ورق کی ہدایات



ذیل میں آپ کی امتحانی کتاب کسر عقبی ورق کا ترجمہ دیا گیا ہسر۔ ہدایت دیسر جانسر پر ، آپ کو تراجم کی اس دستاویز کے بجائے امتحانی کتاب یا جوابی پرچے پر لکھنا چاہیے۔

آپ کا نام (طبع کرده)	(
		آخری		پېلا	وسطى
اسكول					
نم	نمبر		اسکول کا نام		کمرہ

PSAT 10

عمومي بدايات

- آپ ایک وقت میں صرف ایک ہی سیکشن پر کام کر سکتے ہیں۔
- اگر آپ مقررہ وقت سے پہلے سیکشن مکمل کر لیں، تو اس سیکشن میں کیے گئے اپنے کام پر نظرِ ثانی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی اور سیکشن پر نہیں جا سکتے ہیں۔

جواب کی نشان زدگی

اپنے جوابی پرچے پر درست نشانات لگانے کو یقینی بنائیں۔ مكمل نشان زدگى: نامكمل نشان زدگيان:




- آپ کو لازماً نمبر 2 پنسل استعمال کرنا ہو گی۔
- دُہیانَ کے ساتھ بُر سُوال کے لیے صَرفَ ایک ہی جواب پر نشان لگائیں۔ یقینی بنائیں کہ آپ ہر دائرے کو گہرا اور مکمل پُر کریں۔
 - - اپنے جوابی پرچے پر بے مقصد نشانات نہ لگائیں.
- اگر آپ کو کچھ مٹانا ہو، تو پوری طرح مٹائیں۔ نامکمل طور پر مٹائے گئے جوابات کی اسکورنگ، لکھے گئے جوابات کے طور پر کی جائے گی۔
- صرف اُنہی جوابی وقفوں کو استعمال کریں جو سوال نمبروں سے مماثل ہوں۔

آپ کی امتحاثی کتاب کا استعمال

- آپ رف کام لکھنے کے لیے امتحانی کتاب کا استعمال کر سکتے ہیں، تاہم اپنی امتحانی کتاب میں کچھ بھی لکھنے کی بنیاد پر آپ کو کوئی پذیرائی نہیں ملے
- مقررہ وقت ختم ہونے کے بعد، آپ کو اپنی امتحانی کتاب سے اپنے جوابی پرچے میں جوابات منتقل کرنے یا دائروں کو پُر کرنے کی اجازت نہیں ہو گی۔
- آپ کو اس کتاب کے صفحات یا کسی صفحے کے حصوں کو تہ کرنے یا پھاڑنے، یا کتاب یا جوابی پرچے کو امتحانی کمرے سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہو گی۔

اسکور دیے جانے کا عمل

- ہر درست جوآب پر، آپ کو ایک پوائنٹ دیا جائے گا۔
- غلط جواب پر آپ کے پوائنٹس نہیں کٹیں گے؛ لہذا اگر آپ کو جواب کی درستگی کے بارے میں یقین نہ ہو، تب بھی ہر سوال کا جواب درج کرنے کي کوشش کريں۔




درج ذیل کوڈز، آپ کی امتحانی کتاب میں، دیگر طلباء کی

میں خانہ A اور B میں نقل کر لیں اور متعلقہ دائروں کو

بالكل اسى طرح پُر كريں جيسا كم ذيل ميں دكھايا گيا ہے۔

امتحانی کتب سے مختلف ہوں گے۔ انہیں اپنے جوابی پرچے



اس امتحان کے مختلف اقتباسات میں شامل بعض خیالات و نظریات طبع شدہ مواد سے منتخب یا اخذ کیے گئے ہیں، اور ضروری نہیں کہ یہ کالج بورڈ کے خیالات کی ترجمانی کرتے ہوں۔

اس کتاب کو اُس وقت تک نہ کھولیں جب تک کہ پراکٹر آپ کو نہ کہے۔

2.2 مسوده 1: معياري وقت

2.2.1 سيكشن 1: مطالعاتي امتحان

Û

سیکشن 1 کے لیے معیاری وقت 60 منٹ ہے، اور سیکشن کے اختتام پر 5 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا۔ اگر آپ منظورشدہ سہولت کے تحت امتحان دے رہے ہیں، تو آپ کے مقررہ وقت اور وقفوں کا دورانیہ مختلف ہو سکتا ہے۔ براہ کرم اپنے پراکٹر کی جانب سے پڑھے جانے والے اعلانات کو دھیان سے سنیں۔ زبانی طور پر دی گئی مترجّم ہدایات کے بعد، امتحانی کتاب میں موجود ہدایات کا ترجمہ سامنے آئے گا۔

جب سب تیار ہوں گے تو آپ کا پراکٹر کہے گا:

اپنی امتحانی کتاب کو اُس وقت تک نہ کھولیں جب تک میں آپ سے نہ کہوں۔ امتحان شروع ہوتے ہی، آپ کے پاس سیکشن 1، مطالعاتی امتحان پر کام کرنے کے لیے 60 منٹس ہوں گے۔ اس سیکشن کے اختتام پر ہم 5 منٹ کا وقفہ لیں گے۔

اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ نمبر کی حامل انہی جگہوں میں اپنے جوابات کے نشان لگائیں جو سیکشن 1 میں نمبروار امتحانی سوالات کے مماثل ہوں۔ یقینی بنائیں کہ آپ نمبر 2 پنسل ہی استعمال کر رہے ہیں اور دائرے کو گہرا اور مکمل طور پر کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے جواب کو تبدیل کرنا چاہیں تو اسے جتنا ممکن ہو سکے اچھی طرح مثائیں۔ اگر آپ مقررہ وقت سے پہلے اپنا کام مکمل کر لیں تو اس سیکشن میں کیے گئے اپنے کام پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، تاہم کسی اور سیکشن پر نہیں جا سکتے ہیں۔

یاد رکھیں کہ درست جوابات پر آپ کو پوائنٹس ملیں گے لیکن غلط جوابات پر آپ کے پوائنٹس نہیں کٹیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو جواب کی درستگی کے بارے میں یقین نہ ہو، تب بھی ہر سوال کا جواب درج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

براہِ کرم اپنے جوابی پرچے کے صفحہ 3 پر موجود سیکشن 1 پر آ جائیں (یا اگر آپ بڑے خانوں پر مشتمل جوابی پرچہ استعمال کر رہے ہیں تو صفحہ 9 پر آجائیں)۔ اپنے جوابی پرچے کو اپنی میز پر افقی حالت میں کھلا رکھیں۔ صفحات کو موڑیں مت۔ براہِ کرم، اب اپنی امتحانی کتاب کے سیکشن 1 پر آجائیں، ہدایات پڑ ھیں اور کام کا آغاز کر دیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔

30 منٹس کے بعد، آپ کا پراکٹر کہے گا:

آپ کے پاس اس سیکشن کے لیے 30 منٹس باقی ہیں۔

55 منٹس کے بعد، آپ کا پراکٹر کہے گا:

آپ کے پاس اس سیکشن کے لیے 5 منٹس باقی ہیں۔

60 منٹس مکمل ہونے پر ، آپ کا پراکٹر کہے گا:

م روک دیں اور اپنی پنسل نیچے رکھ دیں۔

اپنے جوابی پرچے کو اپنی امتحانی کتاب اُس صفحے پر رکھیں جہاں تک آپ نے کام مکمل کیا ہے۔ اپنی امتحانی کتاب کو بند کر دیں۔

اب آپ کو ذہنی و جسمانی طور پر پُرسکون ہونے کے لیے چند منٹس دیے جاتے ہیں۔ وقفے کے دوران امتحانی سوالات کے بارے میں کسی سے بات نہ کریں یا بلا اجازت امتحانی کمرے سے باہر نہ جائیں۔

ہم پورے 5 منٹس بعد، امتحانی عمل کا دوبارہ آغاز کریں گے۔

اگر آپ کے اسکول نے طلباء کی ذاتی اشیاء وصول نہیں کی ہیں، تو آپ کا پر اکثر کہے گا:

آپ کو، اس وقفے یا امتحان کے دوران کسی بھی دوسرے وقفے کے دوران، فون یا کسی اور برقی آلے تک رسائی یا اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہو گی۔ امتحان ختم ہونے تک، تمام فونز اور دیگر آلات کو مکمل طور پر بند کرکے خود سے علیحدہ کسی اور جگہ رکھ دیں۔

2.2.1.1 وقفے کے دوران

وقفے کے اختتام پر، آپ کا پراکٹر کہے گا:

👩 براہِ کرم اپنی نشست پر بیٹھ جائیں۔ اپنی امتحانی کتاب کو اُس وقت تک نہ کھولیں جب تک میں آپ سے نہ کہوں۔

2.2.1.2 سيكشن 1 امتحاني كتاب كي بدايات



ذیل میں اُن ہدایات کا ترجمہ دیا گیا ہے جو آپ کی امتحانی کتاب کے سیکشن 1 کے آغاز میں موجود ہیں۔

60 منتس، 47 سوالات (معيارى وقت)

اس سیکشن میں موجود سوالات کے جوابات دینے کے لیے اپنے جوابی پرچے کے سیکشن 1 پر آجائیں۔

بدایات

ذیل میں موجود ہر اقتباس یا ہر دو اقتباسات کے بعد چند سوالات دیے گئے ہیں۔ ہر اقتباس یا اقتباسات کے جوڑے کو پڑھنے کے بعد، اس اقتباس یا اقتباسات میں لفظی یا اشاراتی طور پر بیان کردہ بات اور ساتھ موجود گرافکس (جیسے کہ جدول یا گراف) کی بنیاد پر، ہر سوال کے موزوں ترین جواب کا انتخاب کریں۔

2.2.2 سیکشن 2: تحریری و لسانی امتحان



سیکشن 2 کے لیے معیاری وقت **35 منٹس ہے**۔ اگر آپ منظورشدہ سہولت کے تحت امتحان دے رہے ہیں، تو آپ کے مقررہ وقت اور وقفوں کا دورانیہ مختلف ہو سکتا ہے۔ براہِ کرم اپنے پراکٹر کی جانب سے پڑھے جانے والے اعلانات کو دھیان سے سنیں۔ زبانی طور پر دی گئی مترجَم ہدایات کے بعد، امتحانی کتاب میں موجود ہدایات کا ترجمہ سامنے آئے گا۔

جب سب تیار ہوں گے تو آپ کا پراکٹر کہے گا:

امتحان شروع ہوتے ہی، آپ کے پاس سیکشن 2 ، تحریری و لسانی امتحان پر کام کرنے کے لیے 35 منٹس ہوں گے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ نمبر کی حامل انہی جگہوں میں اپنے جوابات کے نشان لگائیں جو سیکشن 2 میں نمبروار امتحانی سوالات کے مماثل ہوں۔ اگر آپ مقررہ وقت سے پہلے اپنا کام مکمل کر لیں تو اس سیکشن میں کیے گئے اپنے کام پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، تاہم کسی اور سیکشن پر نہیں جا سکتے ہیں۔

اپنی امتحانی کتاب کا وہ صفحہ کھولیں جہاں آپ نے اپنا جوابی پرچہ داخل کیا تھا۔ اپنے جوابی پرچے کے صفحہ 3 پر سیکشن 2 ڈھونڈیں (یا صفحہ 11 پر اگر آپ بڑے خانوں والا جوابی پرچہ استعمال کر رہے ہیں)۔ اپنے جوابی پرچے کو اپنی میز پر افقی حالت میں کھلا رکھیں۔ صفحات کو موڑیں مت براہِ کرم، اب اپنی امتحانی کتاب کے سیکشن 2 پر آجائیں، ہدایات پڑھیں اور کام کا آغاز کر دیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔

15 منٹس کے بعد، آپ کا پراکٹر کہے گا:

آپ کے پاس اس سیکشن کے لیے 20 منٹس باقی ہیں۔

30 منٹس کے بعد، آپ کا پراکٹر کہے گا:

آپ کے پاس اس سیکشن کے لیے 5 منٹس باقی ہیں۔

35 منٹس مکمل ہونے پر ، آپ کا پراکٹر کہے گا:

کام روک دیں اور اپنی پنسل نیچے رکھ دیں۔
 اپنے جوابی پرچے کو اپنی امتحانی کتاب اُس صفحے پر رکھیں جہاں تک آپ نے کام مکمل کیا ہے۔ اپنی امتحانی کتاب کو بند کر دیں۔

2.2.2.1 سیکشن 2 امتحانی کتاب کی بدایات



ذیل میں اُن ہدایات کا ترجمہ دیا گیا ہے جو آپ کی امتحانی کتاب کے سیکشن 2 کے آغاز میں موجود ہیں۔

35 منٹس، 44 سوالات (معیاری وقت)

اس سیکشن میں موجود سوالات کے جوابات دینے کے لیے اپنے جوابی پرچے کے سیکشن 2 پر آجائیں۔

بدایات

ذیل میں موجو ہر اقتباس کے ساتھ چند سوالات دیے گئے ہیں۔ بعض سوالات کے تحت، آپ بات یا خیالات کے بہتر اظہار کے لیے اقتباس پر نظرِثانی کی ضرورت محسوس کریں گے۔ جبکہ بعض دیگر سوالات کے لیے آپ کو فقر ے کی بناوٹ میں اغلاط، اس کے استعمال، یا رموز و اوقاف کی درستگی کے لیے اقتباس کی تصحیح کرنے کی ضرورت ہو گی۔ ایک اقتباس یا سوال کے ہمراہ ایک یا زائد گرافکس (جیسے کہ جدول یا گراف) موجود ہو سکتی ہیں جنہیں آپ نظرِثانی یا تصحیح کے فیصلوں کے وقت ملحوظ رکھیں گے۔

بعض سوالات، اقتباس کے ذیلی حصے کی جانب آپ کی رہنمائی کریں گے۔ دیگر سوالات، اقتباس کے کسی مخصوص حصے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروائیں گے یا پھر آپ کو مجموعی طور پر پورے اقتباس پر غورو خوض کرنے کی دعوت دیں گے۔ ہر اقتباس کو پڑ ھنے کے بعد، ہر سوال کا وہ جواب منتخب کریں جو اقتباس کی تحریر کے معیار کو مؤثر ترین انداز میں بہتر بناتا ہو یا جو اقتباس کو معیاری تحریری انگریزی کی روایات سے ہم آہنگ کرتا ہو۔ بہت سے سوالات میں "کوئی تبدیلی نہیں" کا جوابی آپشن بھی شامل ہے۔ اس آپشن کا انتخاب اُس وقت کریں جب آپ سمجھتے ہوں کہ اقتباس کا متعلقہ حصہ بالکل درست ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔

2.2.3 سیکشن 3: ریاضی کا امتحان - کیلکیولیٹر کے استعمال کے بغیر



سیکشن 3 کے لیے معیاری وقت **25 منٹ** ہے، اور سیکشن کے اختتام پر **5 منٹ کا وقفہ** دیا جائے گا۔ اگر آپ منظور شدہ سہولت کے تحت امتحان دے رہے ہیں، تو آپ کے مقررہ وقت اور وقفوں کا دورانیہ مختلف ہو سکتا ہے۔ براہ کرم اپنے پراکٹر کی جانب سے پڑھے جانے والے اعلانات کو دھیان سے سنیں۔ زبانی طور پر دی گئی مترجَم ہدایات کے بعد، امتحانی کتاب میں موجود ہدایات کا ترجمہ سامنے آئے گا۔

جب سب تیار ہوں گے تو آپ کا پراکٹر کہے گا:

ہ امتحان شروع ہوتے ہی، آپ کے پاس سیکشن 3 ، ریاضی کے امتحان پر کیلکیولیٹر کے بغیر کام کرنے کے لیے 25 منٹس ہوں گے۔ اوں سیکشن کے اختتام پر ہم 5 منٹ کا وقفہ لیں گے۔

اگرچہ یہ حصہ، ریاضی کے امتحان کا ہے، لیکن آپ کو کیلکیولیٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو خصوصی سہولت کے تحت چار-افعالی کیلکیولیٹر کے استعمال کی منظوری حاصل ہو۔ اگر آپ کو یہ منظوری حاصل نہیں، تو براہِ کرم اپنے اپنے کیلکیولیٹر، اپنی میز کے نیچے رکھ دیں۔

اپنی امتحانی کتاب کا وہ صفحہ کھولیں جہاں آپ نے اپنا جوابی پرچہ داخل کیا تھا۔ اپنے جوابی پرچے کے صفحہ 3 پر سیکشن 3 ڈھونڈیں (یا صفحہ 13 پر اگر آپ بڑے خانوں والا جوابی پرچہ استعمال کر رہے ہیں)۔ اپنے جوابی پرچے کو اپنی میز پر افقی حالت میں کھلا رکھیں۔ صفحات کو موڑیں مت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ نمبر کی حامل انہی جگہوں میں اپنے جوابات کے نشان لگائیں جو سیکشن 3 میں نمبروار امتحانی سوالات کے مماثل ہوں۔ ایسے سوالات جن پر طالب علم کی جانب سے بذات خود لکھے جانے والے جوابات کا عنوان درج ہو، اُن کے جوابات کو درج کرنے کی ہدایات آپ کی امتحانی کتاب میں موجود ہیں۔ ان سوالوں کے جواب مختصر ہو سکتے ہیں لیکن 4 حروف سے طویل نہیں۔

اگر آپ مقررہ وقت سے پہلے اپنا کام مکمل کر لیں تو اس سیکشن میں کیے گئے اپنے کام پر نظر ٹانی کر سکتے ہیں، تاہم کسی اور سیکشن پر نہیں جا سکتے ہیں۔

براہِ کرم، اب اپنی امتحانی کتاب کے سیکشن 3 پر آجائیں، ہدایات پڑھیں اور کام کا آغاز کر دیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔

10 منٹس کے بعد، آپ کا پراکٹر کہے گا:

آپ کے پاس اس سیکشن کے لیے 15 منٹس باقی ہیں۔

20 منٹس کے بعد، آپ کا پراکٹر کہے گا:

آپ کے پاس اس سیکشن کے لیے 5 منٹس باقی ہیں۔

25 منٹس مکمل ہونے پر ، آپ کا پر اکٹر کہے گا:

🚯 کام روک دیں اور اپنی پنسل نیچے رکھ دیں۔

اپنے جوابی پرچے کو اپنی امتحانی کتاب اُس صفحے پر رکھیں جہاں تک آپ نے کام مکمل کیا ہے۔ اپنی امتحانی کتاب کو بند کر دیں۔

اب آپ کو ذہنی و جسمانی طور پر پُرسکون ہونے کے لیے چند منٹس دیے جاتے ہیں۔ وقفے کے دور ان امتحانی سوالات کے بارے میں کسی سے بات نہ کریں یا بلا اجازت امتحانی کمرے سے باہر نہ جائیں۔

ہم پورے 5 منٹس بعد، امتحانی عمل کا دوبارہ آغاز کریں گے۔

2.2.3.1 وقفے کے دوران

وقفے کے اختتام پر، آپ کا پراکٹر کہے گا:

م براہِ کرم اپنی نشست پر بیٹھ جائیں۔ اپنی امتحانی کتاب کو اُس وقت تک نہ کھولیں جب تک میں آپ سے نہ کہوں۔



ذیل میں اُن ہدایات کا ترجمہ دیا گیا ہے جو آپ کی امتحانی کتاب کے سیکشن 3 کے آغاز میں موجود ہیں۔

25 منتس، 17 سوالات (معياري وقت)

اس سیکشن میں موجود سوالات کے جوابات دینے کے لیے اپنے جوابی پرچے کے سیکشن 3 پر آجائیں۔


بدایات

سوال 1 سے 13 کے لیے، ہر مسئلہ کو حل کریں، انتخاب کے لیے دیے گئے جوابات میں سے موزوں ترین جواب منتخب کریں، اور اپنے جوابی پرچے پر موجود گرڈ میں اپنا جوابی پرچے پر موجود گرڈ میں اپنا جوابی پرچے پر موجود گرڈ میں اپنا جواب درج کریں۔ گرڈ میں اپنے جوابات کے اندراج کا طریقہ جاننے کے لیے، سوال 14 سے پہلے دی گئی ہدایات ملاحظہ کریں۔ آپ رف کام لکھنے کے لیے، اپنے امتحانی کتابچے میں دستیاب کوئی بھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔

نوٹس

- 1. کیلکیولیٹر کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔
- 2. استعمال کردہ تمام متغیر عددی علامات اور الجبرائی ترکیبات کو حقیقی اعداد سمجھا جائے گا، جب تک کہ اس کے برخلاف ان کی قیمتیں متعین نہ کی جائیں۔
 - 3. اس امتحان میں فراہم کردہ اشکال کو پیمائش کے لیے وضع کیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ ان کا کوئی اور استعمال متعین کیا گیا ہو۔
 - 4. تمام اشکال مستوی سطح پر بنی ہوں گی، ماسوائے بصورت دیگر نشاندہی کی جائے۔
 - 5. الایہ کہ کچھ اور اشارہ دیا گیا ہو، دیئے گئے فنکشن f کا ٹومین تمام حقیقی اعداد x کا سیٹ ہے جس کے لیے f(x) حقیقی نمبر ہے۔

حوالم



کسی دائر ے میں قوس کے درجوں کی تعداد 360 ہے۔ کسی دائرے میں قوس کے ریڈینز کی تعداد 2π ہے۔ کسی مثلث کے زاویوں کے درجوں کی مجموعی پیمائش 180 ہے۔

بدايات

سوال 14 سے 17 کے لیے، مسئلہ حل کریں اور جوابی پرچے پر موجود گرڈ میں اپنا جواب درج کریں، جیسا کہ ذیل میں بتایا گیا ہے۔

- اگرچہ یہ لازم نہیں ہے تاہم آپ کو تجویز دی جاتی ہے
 کہ آپ اپنے جوابات کالمز کے سب سے اوپر والے
 خانوں میں درج کریں تاکہ دائروں کو بالکل درست
 انداز میں پُر کیا جا سکے۔ آپ کو پذیر ائی اُسی صورت
 میں ملے گی جب دائروں کو درست انداز میں پُر کیا گیا
 ہو گا۔
- 2. کسی بھی کالم میں ایک سے زائد دائروں کو پُر نہ کریں۔
 - 3. کسی بھی سوال کا جواب منفی نہیں آئے گا۔
- بعض مسائل کے ایک سے زیادہ درست جوابات ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں، صرف ایک ہی جواب کو گرڈ میں درج کریں۔
- 5. مخلوط اعداد جیسے کہ $\frac{1}{2}$ 3 کو لازماً 3.5 یا 7/2 کے




طور پر گرڈ میں لکھا جانا چاہیے۔ (اگر


کو گرڈ میں لکھا گیا تو اسے $\frac{31}{2}$ ، نہیں پڑھا جائے $\frac{1}{2}$

گا بطور کے طور $\frac{1}{2}$ 3۔)


6. اعشاری جوابات: اگر کسی سوال کا ایسا اعشاری جواب نکل آئے جس کے تمام اعشاری ہندسوں کو گرڈ میں لکھنا ممکن نہ ہو تو اسے یا تو راؤنڈ آف کر دیا جائے یا پھر آخر کے کچھ اعشاری ہندسوں کو ختم کر دیا جائے، مگر یہ جواب پوری گرڈ پر محیط ہونا چاہیے۔



گرڈ $\frac{2}{3}$ میں لکھنے کے قابلِ قبول طریقے یہ ہیں:



جواب: 201 – ہر پوزیشن درست ہے



نوث: آپ اپنے جواب کا آغاز کسی بھی کالم میں کر سکتے ہیں، جہاں جگہ کی گنجانش ہو۔ آپ کو جن کالمز کے استعمال کی ضرورت نہ ہو، انہیں خالی چھوڑ دیں۔

2.2.4 سيكشن 4: رياضي كا امتحان - كيلكيوليثر



سیکشن 4 کے لیے معیاری وقت 45 منٹس ہے۔ اگر آپ منظور شدہ سہولت کے تحت امتحان دے رہے ہیں، تو آپ کے مقررہ وقت اور وقفوں کا دور انیہ مختلف ہو سکتا ہے۔ براہ کرم اپنے پر اکثر کی جانب سے پڑھے جانے والے اعلانات کو دھیان سے سنیں۔ زبانی طور پر دی گئی مترجَم ہدایات کے بعد، امتحانی کتاب میں موجود ہدایات کا ترجمہ سامنے آئے گا۔

جب طلباء امتحان کے لیے تیار ہو جائیں، تو آپ کا پراکٹر کہے گا:

- یہ امتحان کا آخری سیکشن ہے اب آپ تکمیل کے مرحلے میں ہیں! امتحان شروع ہوتے ہی، آپ کے پاس سیکشن 4، ریاضی کے امتحان پر کیلکیولیٹر کے ہمراہ کام کرنے کے لیے 45 منٹس ہوں گے۔
- آپ اس سیکشن کے لیے اپنا کیلکیولیٹر استعمال کر سکتے ہیں؛ براہِ کرم اب اپنا کیلکیولیٹر اپنی میز پر رکھ دیں۔ کیلکیولیٹر استعمال کرتے ہوئے، براہِ کرم اِن ہدایات پر عمل کریں:
- اسے میز کی سطح پر افقی حالت میں رکھیں یا اس طرح تھامیں کہ کوئی اور طالب علم آپ کا کام نہ دیکھ پائے۔
 - کسی دوسرے کو اپنا کیلکیولیٹر نہ دیں اور نہ ہی اس کا تبادلہ کریں۔
 - اگر آپ اپنے ساتھ اضافی کیلکیولیٹر یا بیٹریاں لائے ہیں، تو انہیں اپنی میز کے نیچے فرش پر رکھیں۔
- اگر آپ کا کیلکیولیٹر درست انداز میں کام نہ کر رہا ہو اور آپ کے پاس بیٹریاں یا اضافی کیلکیولیٹر موجود ہو،
 تو اپنا ہاتھ بلند کریں۔ میں آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا/گی۔ اگر آپ کے پاس اضافی کیلکیولیٹر نہ ہو، تو
 امتحان دینا جاری رکھیں۔ ریاضی کے اِن تمام سوالات کا جواب بغیر کیلکیولیٹر کے دیا جاسکتا ہے۔

اپنی امتحانی کتاب کا وہ صفحہ کھولیں جہاں آپ نے اپنا جوابی پرچہ داخل کیا تھا۔ اپنے جوابی پرچے کے صفحہ 3 پر سیکشن 4 ڈھونڈیں (یا صفحہ 16 پر اگر آپ بڑے خانوں والا جوابی پرچہ استعمال کر رہے ہیں)۔ اپنے جوابی پرچے کو اپنی میز پر افقی حالت میں کھلا رکھیں۔ صفحات کو موڑیں مت۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ نمبر کی حامل انہی جگہوں میں اپنے جوابات کے نشان لگائیں جو سیکشن 4 میں نمبروار امتحانی سوالات کے مماثل ہوں۔ ایسے ایسے سوالات جن پر Student-Produced Responses (طالب علم کی جانب سے بذات خود لکھے جانے والے جوابات) کا عنوان درج ہو، اُن کے جوابات کو درج کرنے کی ہدایات آپ کی امتحانی کتاب میں موجود ہیں۔ ان سوالوں کے جواب مختصر ہو سکتے ہیں لیکن 4 حروف سے طویل نہیں۔

اگر آپ مقررہ وقت سے پہلے اپنا کام مکمل کر لیں تو اس سیکشن میں کیے گئے اپنے کام پر نظرِ ثانی کر سکتے ہیں، تاہم کسی اور سیکشن پر نہیں جا سکتے ہیں۔

براہِ کرم، اب اپنی امتحانی کتاب کے سیکشن 4 پر آجائیں، ہدایات پڑ ہیں اور کام کا آغاز کر دیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔

20 منٹس کے بعد، آپ کا پراکٹر کہے گا:

آپ کے پاس اس سیکشن کے لیے 25 منٹس باقی ہیں۔

40 منٹس کے بعد، آپ کا پراکٹر کہے گا:

آپ کے پاس اس سیکشن کے لیے 5 منٹس باقی ہیں۔

45 منٹس مکمل ہونے پر، آپ کا پراکٹر کہے گا:

💿 کام روک دیں اور اپنی پنسل نیچے رکھ دیں۔

اپنے جوابی پرچے کو اس طرح بند کریں کہ صفحہ 1 اوپر ہو۔ اپنی امتحانی کتاب کو بند کریں اور اسے اپنے جوابی پرچے کے اوپر رکھ دیں۔

مبارک باد - آپ کا امتحان اختتام پذیر ہوا! براہِ کرم اُس وقت تک اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیے جب تک میں جانے کی اجازت نہ دوں۔

2.2.4.1 سیکشن 4 امتحانی کتاب کی ہدایات



ذیل میں اُن ہدایات کا ترجمہ دیا گیا ہے جو آپ کی امتحانی کتاب کے سیکشن 4 کے آغاز میں موجود ہیں۔

45 منتس، 31 سوالات (معيارى وقت)


اس سیکشن میں موجود سوالات کے جوابات دینے کے لیے اپنے جوابی پرچے کے سیکشن 4 پر آجائیں۔

بدایات

سوال 1 سے 27 کے لیے، ہر مسئلہ کو حل کریں، انتخاب کے لیے دیے گئے جوابات میں سے موزوں ترین جواب منتخب کریں، اور اپنے جوابی پرچے پر موجود مماثل دائرے کو پُر کریں۔ **سوال 28 سے 31 کے لیے**، مسئلہ حل کریں اور جوابی پرچے پر موجود گرڈ میں اپنا جواب درج کریں۔ گرڈ میں اپنے جوابات کے اندراج کا طریقہ جاننے کے لیے، سوال 28 سے پہلے دی گئی ہدایات ملاحظہ کریں۔ آپ رف کام لکھنے کے لیے، اپنے امتحانی کتابچے میں دستیاب کوئی بھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔

- 1. کیلکیولیٹر کے استعمال کی اجازت ہے۔
- استعمال کردہ تمام متغیر عددی علامات اور الجبرائی ترکیبات کو حقیقی اعداد سمجھا جائے گا، جب تک کہ اس کے برخلاف ان کی قیمتیں
 - اس امتحان میں فراہم کردہ اشکال کو پیمائش کے لیے وضع کیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ ان کا کوئی اور استعمال متعین کیا گیا ہو۔
 - تمام اشکال مستوی سطح پر بنی ہوں گی، ماسوائے بصورت دیگر نشاندہی کی جائے۔
 - جب تک کہ اس کے برخلاف تعین نہ کیا جائے، دیے ہوئے فعل f(x) کی عملداری، تمام حقیقی اعداد x کا سیٹ ہے جس کے لیے f(x) ایک حقیقی عدد ہے۔

حو الم







 $c^2 = a^2 + b^2$







 $A = \ell w$



 $A = \pi r^2$ $C = 2\pi r$








$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$





 $V = \ell wh$

کسی دائرے میں قوس کے درجوں کی تعداد 360 ہے۔ کسی دائرے میں قوس کے ریڈینز کی تعداد 2π ہے۔

کسی مثلث کے زاویوں کے درجوں کی مجموعی پیمائش 180 ہے۔

بدايات

سوال 28 سے 31 کے لیے، مسئلہ حل کریں اور جوابی پرچے پر موجود گرڈ میں اپنا جواب درج کریں، جیسا کہ ذیل میں بتایا گیا ہے۔

- 2. کسی بھی کالم میں ایک سے زائد دائروں کو پُر نہ کریں۔
 - 3. کسی بھی سوال کا جواب منفی نہیں آئے گا۔
- بعض مسائل کے ایک سے زیادہ درست جوابات ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں، صرف ایک ہی جواب کو گرڈ میں درج کریں۔
- 5. مخلوط اعداد جیسے کہ $\frac{1}{2}$ 3 کو لازماً 3.5 یا 7/2 کے




طور پر گرڈ میں لکھا جانا چاہیے۔ (اگر


کو گرڈ میں لکھا گیا تو اسے $\frac{31}{2}$ ، نہیں پڑھا جائے $\frac{1}{2}$

گا بطور کے طور $\frac{1}{2}$ 3۔)

6. اعشاری جوابات: اگر کسی سوال کا ایسا اعشاری جواب نکل آئے جس کے تمام اعشاری ہندسوں کو گرڈ میں لکھنا ممکن نہ ہو تو اسے یا تو راؤنڈ آف کر دیا جائے یا پھر آخر کے کچھ اعشاری ہندسوں کو ختم کر دیا جائے، مگر یہ جواب پوری گرڈ پر محیط ہونا چاہیے۔



گرڈ $\frac{2}{3}$ میں لکھنے کے قابلِ قبول طریقے یہ ہیں:



جواب: 201 - ہر پوزیشن درست ہے

2	0	1	2	0	1	
	0		$\overline{}$	9	9	
00		<u>)</u> (e	<u></u>		<u>)</u> (e	<u>)</u> (e
00	1		1	0		\bigcirc
2 a 3 3	(2) (3)	2	(3)	2	2	2

نوث: آپ اپنے جواب کا آغاز کسی بھی کالم میں کر سکتے ہیں، جہاں جگہ کی گنجانش ہو۔ آپ کو جن کالمز کے استعمال کی ضرورت نہ ہو، انہیں خالی چھوڑ دیں۔

- 3 امتحان کے بعد
 - 3.1 برخاستگی
- 3.1.1 امتحانی کتاب اور دیگر امتحانی مواد جمع کرنا

جب سب تیار ہوں گے تو آپ کا پراکٹر کہے گا:

اب میں آپ لوگوں سے آپ کی امتحانی کتب وصول کروں گا/گی۔ براہ کرم اپنے جوابی پرچوں کو اپنی میز پر افقی رکھیں اور خاموشی سے بیٹھ جائیں۔

MP3 یا ATC صارفیں کے لیے، آپ کا پراکٹر کہے گا:

اب میں آپ سے فلیش ڈرائیوز واپس لوں گا/گی۔

3.1.2 تكميلي عمل

آپ کے پراکٹر کی جانب سے تمام طلباء کو کہا جائے گا:

اگر جوابی پرچے پر ابھی بھی آپ کی کوئی ذاتی، غیر امتحانی معلومات پُر کرنے کے لیے ہیں، براہ مہربانی اپنے جوابی پرچے کو اللہ اکر کے ڈیسک پر رکھیں۔ جس وقت میں دیگر طالب علموں کو برخاست کروں، اس دوران خاموشی سے بیٹھیں اور جوابی پرچے پر کچھ نہ لکھیں۔ چند منٹوں میں، میں آپ کے جوابی پرچے کو مکمل کرنے میں آپ کی مدد کروں گا۔

3.1.3 جوابی پرچے جمع کرنا

تمام طلباء كو كبين:

اگر جوابی پرچے پر آپ نے ذاتی، غیر امتحانی معلومات پُر کر لی ہیں، براہ مہربانی اپنے جوابی پرچے کو سیدھا کر
 کے ڈیسک پر رکھیں تاکہ میں جمع کرنے سے پہلے اس کی پڑتال کر سکوں۔ براہ کرم اُس وقت تک خاموشی سے
 بیٹھیں جب تک میں جانے کی اجازت نہ دوں۔

3.1.3.1 طلبہ کو برخاست کرنے سے قبل

تمام مواد کی گنتی مکمل ہونے کے بعد آپ کا پراکٹر کہے گا:

بس چند ہی لمحوں میں آپ کو جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ یاد رکھیں: آپ کسی بھی صورت میں، کمرہ امتحان سے کوئی امتحانی مواد ہرگز نہیں لے جا سکتے، اور نہ ہی ای میل، متنی پیغامات، انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا ایپلی کیشنز سمیت کسی بھی ذریعے سے کسی کو بھی امتحانی مواد سے آگاہ نہیں کر سکے۔ آپ کو اسکورز کی دستیابی اور اپنے اسکور کی مکمل رپورٹ کو آن لائن دیکھنے کے طریقہ کار کے بارے میں مطلع کر دیا جائے گا۔ آپ اپنے مخصوص امتحانی نتائج کی بنیاد پر ذاتی مشق کے لیے مفت میں Khan Academy سے بھی منسلک ہو سکتے ہیں۔

- (A) طلباء جن کی اشیاء کو جمع کیا گیا تھا، پراکٹر کہے گا:
- امتحان کا انتظامی عمل اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ براہِ کرم اُس وقت تک اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیے جب تک میں آپ کی صف کو برخاست نہ کروں۔ اس نقطہ پر، براہ مہربانی اپنی اشیاء اکٹھی کریں، اپنے آلات اینے کے لیے آئیں، اگر کوئی ہوں، اور خاموشی سے باہر نکلیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ممکن ہے کہ دیگر کمروں میں موجود طلباء ابھی بھی امتحانی عمل سے گزر رہے ہوں۔ ایک بار پھر مبارک باد، اور آپ کی شرکت اور تمام تر محنت اور کاوشوں کا تہہ دل سے شکریہ۔
 - (B) طلباء جن کی اشیاء کو جمع نہیں کیا گیا تھا، پر اکثر کہے گا:
 - امتحان کا انتظامی عمل اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنی اپنی ذاتی اشیاء جمع کریں، اور خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر جائیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ممکن ہے کہ دیگر کمروں میں موجود طلباء ابھی بھی امتحانی عمل سے گزر رہے ہوں۔ ایک بار پھر مبارک باد، اور آپ کی شرکت اور تمام تر محنت اور کاوشوں کا تہہ دل سے شکریہ۔